




4815CH03

سندر باد جہازی کا دوسرا سفر

الف لیلہ

دنیا کے مختلف علاقوں میں داستانیں سننے سنانے کی روایت عام رہی ہے۔ ہندستان میں ”کھنڈ سرت ساگر“، پرانے قصوں کا معروف مجموعہ ہے۔ عرب دنیا میں الف لیلہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عربی میں یہ داستان الف لیلہ ولیتے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ”ایک ہزار اور ایک راتیں“۔ الف لیلہ ایک قصہ در قصہ داستان کا نام ہے جسے شہزاد نامی ایک خاتون سے منسوب کیا جاتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ شہزاد کو قصے کے طول دینے میں زبردست ملکہ حاصل تھا اور ہر رات وہ اپنے قصے پر ایک ایسے موڑ پر لے جا کر چھوڑتی تھی جہاں سننے والے کا تجسس بڑھ جاتا تھا۔ اگلی رات قصہ پھر آگے بڑھتا تھا اور پھر اس میں ایک نیا موڑ آ جاتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہزاد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے اس کے زندہ رہنے کی شرط یہی تھی کہ داستان ختم نہ ہو۔ اس امتحان میں شہزاد کھری اتری۔ اسی لیے دنیا بھر کے بیانیہ ادب میں شہزاد کا نام اب بجاۓ خود ایک لمحہ بن چکا ہے۔ مغرب و مشرق کی تقریباً تمام اہم زبانوں میں الف لیلہ کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ یہ داستان بچوں کی سب سے پسندیدہ کتابوں میں ہے۔

پہلے سفر کے بعد میں نے پٹکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب بھی سفر کا نام نہ لوں گا اور آرام سے بغداد میں زندگی گزاروں گا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ پھر میں آرام کی زندگی سے اُكتا گیا۔ میرا دل مجھ سے بار بار کہتا کہ ”سفر کرو، سفر میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ نئے نئے شہر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی شہر میں کوئی نایاب چیز مل گئی تو آدمی اسے دوسرے شہر میں پیچ کر لاکھوں کما سکتا ہے۔“ آخر میں نے سفر کا ارادہ کر ہی لیا اور ایک دن شہر سے اچھی اچھی چیزیں خرید کر جہاز پر سوار ہو گیا۔ میرے ساتھ دوسرے سو داگر بھی تھے۔



14

ہم کئی دن تک سمندر میں سفر کرتے رہے۔ کبھی کسی بندرگاہ پر جہاز ٹھہر جاتا تو ہم اُتر جاتے۔ اپنے ساتھ لایا ہوا سامان مہنگے داموں بیچتے۔ اسی طرح وہاں اگر کوئی عجیب و غریب چیز مل جاتی تو اسے سستے داموں خریدتے اور دوسرے شہر میں اس کی بھاری قیمت وصول کرتے۔ اس طرح مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس سفر میں بہت منافع ہوا۔



ایک دن ہمارا جہاز ایک جزیرے کے کنارے آ کر رکا۔ یہ جزیرہ بہت ہرا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پھل دار درخت دکھائی دے رہے تھے۔ ہم سب اتر پڑے اور جزیرے کی سیر کرنے لگے۔ جزیرہ ویران پڑا تھا۔ وہاں کوئی آدم تھا نہ آدم زاد۔ لیکن درختوں میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ہم سب مل کر درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگے۔ بڑا مزا آیا۔ پاس ہی ایک چشمہ بہرہ رہا تھا۔ ہم سبھوں نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا اور ادھر ادھر سیر کو نکل گئے۔ جہاز کے کپتان نے اعلان کیا تھا کہ جہاز ایک گھنٹے کے بعد روانہ ہو جائے گا لیکن میں اپنی دھن میں اکیلا بہت دور نکل گیا۔ ایک گھنٹے، سا یہ دار درخت کو دیکھا تو اس کے نیچے ٹھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ لیکن بدقتی سے آنکھ لگ گئی۔



جب آنکھ کھلی تو آس پاس کسی ساتھی کو نہیں پایا۔ میں گھبرا کر جہاز کی طرف دوڑا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس طرح میں جزیرے پر اکیلا ہی رہ گیا۔ میں اپنے کیے پر بہت پچھتا یا لیکن پچھتا نے سے کیا ہوتا ہے؟ میں خود کو لعنت ملامت




کرنے لگا کہ میں نے دل کی بات کیوں مانی؟ کیا پہلے سفر کی مصیبتوں کم تھیں جو بیٹھے بٹھائے پھر آفت مولی۔ میں حیران تھا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ آس پاس پانی، آسمان اور ہرے بھرے درختوں کے سوا نہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں جزیرے میں ادھر ادھر مارا مارا پھرنا لگا۔ میں دعا مانگتا تھا کہ ”یا خدا مجھے اس مصیبت سے بچا۔“ اچانک میری نظر ایک سفید چیز پر پڑی۔ میں اس کی طرف لپکا۔ نزدیک پہنچا تو مجھے وہ چیز ایک سفید گنبد کی طرح نظر آئی۔ سوچا کہ اس کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ پھر نے پر گنبد کی دیوار بہت چکنی محسوس ہوئی۔ میں اس گنبد کے ارد گرد گھونمنے لگا کہ کہیں دروازہ نظر آجائے۔ مگر یہ تو چاروں طرف سے بند تھا۔ اتنے میں یکا یک چاروں طرف اندر ہیرا چھا گیا۔ میں سمجھا کہ شام ہو چلی ہے۔ سورج ڈوب گیا۔ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں بادل کا ایک بڑا کالا ٹکڑا نظر آیا جو بڑی تیزی سے میری طرف چلا آ رہا تھا۔ میں سمجھا کہ اب زور دار بارش ہو گی لیکن بادل کا




16

وہ ٹکڑا تو میرے قریب آ کر نیچے اترنے لگا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹکڑا گنبد پر اس طرح آگرا کہ گنبد نگاہوں سے او جھل ہو گیا۔



اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھی اکثر ایک بہت بڑے پرندے کا ذکر کیا کرتے تھے جس کا نام ”سپر غ“ ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ یہ بادل کا ٹکڑا نہیں سپر غ ہے اور جسے میں سفید گنبد سمجھ رہا تھا وہ تو اس سپر غ کا انڈا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس جزیرے سے کیسے نکلا جائے۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو سپر غ کے پنجے سے باندھ لوں تو کل صبح سپر غ جہاں اڑ کر جائے گا میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کہیں بھی۔ اس جگہ سے تو چھٹکارا ملے گا۔ آگے اللہ مالک ہے۔ میں سپر غ کا نیجہ تلاش کرنے لگا۔ مجھے اس کے پنجے کے بڑے بڑے ناخن نظر آئے۔ ہر ناخن درخت کی موٹی جڑ کی طرح تھا۔ میں نے پگڑی کھولی اور خود کو ایک ناخن کے ساتھ باندھ لیا اور رات بھر خدا سے دعا مانگتا رہا۔

صح ہوئی۔ سپر غ اڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ اڑنے لگا۔ میں بہت گھبرا رہا تھا مگر کر بھی کیا سکتا تھا۔ اڑتے



اڑتے سپر غ نیچے اترنے لگا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ نیچے ایک وادی ہے۔ جیسے ہی وہ زمین کے قریب آیا میں نے پگڑی کا سراکھوں دیا اور دھم سے زمین پر آ گرا۔ میں نے دیکھا کہ سپر غ ایک بڑے اژد ہے کی طرف جھپٹا اور اژد ہے کوپنی چونچ میں دبا کر تیزی سے اڑ گیا۔

اب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو چاروں طرف اوپنے اوپنے پہاڑ تھے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یک میری نظر زمین پر پڑی تو مجھے چاروں طرف ہیرے ہی ہیرے نظر آئے۔ اتنے بڑے اور اتنے سارے ہیرے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جھٹ سے میں نے ہیروں کو اٹھا کر اپنی پگڑی میں جمع کرنا شروع کیا اور افسوس کرنے لگا کہ چھڑے کی تھیلی کیوں جہاز پر بھول آیا۔ اگر وہ ہوتی تو اور بھی ہیرے اکٹھا کر لیتا۔ اچانک مجھے اژد ہے کی پھٹنکار سنائی دی۔ مُڑ کر دیکھا تو کئی اژد ہے اپنے اپنے بلوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اتنے سارے





18

یہ کہنا ہی تھا کہ اوپر سے ایک گوشت کا ٹکڑا میرے پاس آ کر گرا۔ اس کے بعد تو پھر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے وادی میں گرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ ان ٹکڑوں سے ہیرے لپٹ جاتے تھے۔ یہ دیکھتے ہی مجھے ایک بات یاد آگئی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کسی جزیرے کی ایک وادی میں ہیرے کی کان ہے۔ سو دا گر اس وادی میں



گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے چھینتے ہیں۔ ان سے ہیرے چپک جاتے ہیں۔ بڑے بڑے گدھ وادی میں آ کر ان ٹکڑوں کو اپنے پنجوں سے اٹھا کر اڑ جاتے ہیں اور انھیں اپنے گھونسلوں میں لا کر خود کھاتے ہیں اور اپنے پنجوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس سے پہلے سو دا گر گدھ کواڑا کر گوشت سے چپکے ہوئے ہیرے نکال لے جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہی وہ ہیرے کی کان ہے۔ میں نے ہیروں سے بھری گپڑی اپنی کمر سے کس کر باندھ لی اور گوشت کے ایک بڑے ٹکڑے کو گپڑی کے ایک سرے سے اپنی پیٹھ پر باندھ لیا اور زمین پر اونڈھا لیٹ گیا۔

کچھ ہی دیر بعد وادی میں گدھ ایک ایک کر کے اترنے لگے۔ ایک بہت بڑا گدھ اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف جھپٹا جو میری پیٹھ پر بندھا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے پنجوں سے لے کر اڑا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اڑنے



19

سنبداد جہازی کا سفر

لگا۔ جب گدھ اپنے گھونسلے میں پہنچا تو جھٹ سے میں نے اپنے آپ کو گوشت کے ٹکڑے سے الگ کر لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں وہاں ایک سوداگر آیا اور ڈمڈا دکھا کر گدھ کو اڑا دیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیران ہوا۔ سمجھا کہ میں کوئی چور ہوں اور ہیرے چرانے آیا ہوں۔ میں نے اسے سارا ماجرہ سنایا اور کہا کہ ”گوشت سے لپٹے ہوئے ہیرے تمہارے ہیں۔ میں اور بھی ہیرے سمیٹ کر لایا ہوں۔“ پھر میں نے پکڑی میں بندھے ہوئے ہیرے اسے دکھائے اور کہا ”جتنے چاہو لے لو مگر پہلے مجھے پانی پلاو، کھانا کھلاو ورنہ میں مر جاؤں گا۔“ یہ سن کر سوداگر بہت خوش ہوا اور مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ میری خوب خاطر توضیح کی اور میرے پاس سے ایک بھی ہیرا نہیں لیا۔ پھر اس نے میرے بغداد جانے کا انتظام کر دیا۔ اس سوداگر کی مہربانی سے میں جہاز پر سوار ہوا اور اس طرح میں اپنے سفر سے مالا مال ہو کر لوٹا اور خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔

(الف لیلہ سے)

سوالات

1. سنبداد جہازی نے دوسرا سفر کیوں شروع کیا؟
2. جزیرے کی سیر کرتے ہوئے سنبداد نے کیا کیا دیکھا؟
3. جزیرے میں گوشت کے ٹکڑے گرنے پر سنبداد کو کیا یاد آیا؟
4. جزیرے سے سنبداد جہازی کس ترکیب سے نکلا تھا؟
5. سوداگر نے سنبداد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟